# فہرست
# درسی کتب

2018ء

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

# مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوتِ اسلامی)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ عاشقانِ رسول کی مدنی تحریک ”دعوتِ اِسلامی“ نیکی کی دعوت، اِحیائے سنّت اور اِشاعتِ علمِ شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کا عزمِ مُصمّم رکھتی ہے، یہ اس وقت دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں، تقریباً 100 شعبوں کے ذریعے دینِ اسلام کی خدمت کے لئے کوشاں ہے۔ اِنہی شعبوں میں سے ایک ”**مجلس المدینۃ العلمیۃ**“ بھی ہے۔ جو دعوتِ اسلامی کے عُلمائے کرام کَثَّرَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام پر مشتمل ہے، جس نے خالص علمی اور اِشاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کے 16 شعبے ہیں۔ **شعبہ درسی کتب** اِن میں سے ایک ہے جو درسِ نظامی (عالم کورس) کی کتب پر کام کر رہا ہے۔ اس شعبے نے 52 کتب پر کام مکمل کر لیا ہے اور 10 پر کام جاری ہے۔ اس کے اہداف میں درس نظامی میں رائج جملہ کتب کی عربی شروحات و حواشی شامل ہیں۔ شائع شدہ کتب کا مختصر تعارف حاضر ہے۔ آپ بھی اپنے قیمتی مشورے اس ای میل ایڈریس پر بھیج کر اس عظیم کام میں معاونت فرما سکتے ہیں۔ ilmia@dawateislami.net

# مکتبۃ المدینہ (پاکستان) کی مختلف شاخیں

| نمبر شمار | نام مکتبۃ المدینہ | ایڈریس | فون نمبر |
|---|---|---|---|
| 01 | مکتبۃ المدینہ شہید مسجد | مکتبۃ المدینہ نزد شہید مسجد کھارادر باب المدینہ (کراچی) | 0323-2626625 |
| 02 | مکتبۃ المدینہ فیضان مدینہ | مکتبۃ المدینہ فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ (کراچی) | 0312-2802126 |
| 03 | مکتبۃ المدینہ اردو بازار | مکتبۃ المدینہ اردو بازار باب المدینہ (کراچی) | 0312-8251292 |
| 04 | مکتبۃ المدینہ فیضان مدینہ حیدر آباد | مکتبۃ المدینہ فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن زم زم نگر (حیدر آباد) | 0311-3725514 |
| 05 | مکتبۃ المدینہ نواب شاہ | مکتبۃ المدینہ چاکرہ بازار نزد ایم سی بی بینک نواب شاہ | 024-4362145 |
| 06 | مکتبۃ المدینہ سکھر شاپ | مکتبۃ المدینہ فیضان مدینہ بیراج روڈ سکھر | 071-5619195 |
| 07 | مکتبۃ المدینہ خانپور شاپ | مکتبۃ المدینہ درانی چوک نہر کنارہ خان پور | 068-5571686 |
| 08 | مکتبۃ المدینہ بوہڑ گیٹ ملتان | مکتبۃ المدینہ اندرون بوہڑ گیٹ مدینۃ الاولیاء (ملتان) | 061-4511192 |
| 09 | مکتبۃ المدینہ جڑانوالہ | مکتبۃ المدینہ فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن جڑانوالہ | 0306-3328126 |
| 10 | مکتبۃ المدینہ امین پور | مکتبۃ المدینہ امین پور بازار سردار آباد (فیصل آباد) | 041-2632625 |
| 11 | مکتبۃ المدینہ مال روڈ لاہور | مکتبۃ المدینہ مال روڈ مرکز الاولیاء (لاہور) | 042-35712664 |
| 12 | مکتبۃ المدینہ دربار مارکیٹ لاہور | مکتبۃ المدینہ داتا دربار مرکز الاولیاء (لاہور) | 042-37311679 |

# فہرست (درسی کتب)

| نمبر شمار | کُتب | صفحہ نمبر |
|---|---|---|
| 01 | تفسير الجلالين مع أنوار الحرمين (الأول) | 01 |
| 02 | تفسير الجلالين مع أنوار الحرمين (الثاني) | 01 |
| 03 | تفسير البيضاوي مع حاشية مقصود الناوي | 01 |
| 04 | تفسیر سورۂ نور | 01 |
| 05 | التعليق الرضوي على صحيح البخاري | 01 |
| 06 | رياض الصالحين مع حاشية منهاج العارفين | 01 |
| 07 | شرح الأربعين النووية | 01 |
| 08 | انوار الحدیث | 01 |
| 09 | نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر | 02 |
| 10 | مقدمة الشيخ مع التحفة المرضية | 02 |
| 11 | تيسير مصطلح الحديث | 02 |
| 12 | نصاب اصولِ حدیث | 02 |
| 13 | نور الإيضاح مع حاشية النور والضياء | 02 |
| 14 | قانون شریعت | 02 |
| 15 | أصول الشاشي مع أحسن الحواشي | 02 |
| 16 | تلخیص اصول الشاشی | 02 |
| 17 | شرح العقائد النسفية مع حاشيته جمع الفرائد | 03 |
| 18 | شرح الفقه الأكبر | 03 |
| 19 | کتاب العقائد | 03 |
| 20 | هداية النحو مع حاشية عناية النحو | 03 |
| 21 | الكافية مع شرحه الناجية | 03 |
| 22 | شرح الجامي مع حاشية الفرح النامي | 03 |
| 23 | شرح مائة عامل مع حاشية الفرح الكامل | 03 |
| 24 | نحومیر مع حاشیۂ نحومنیر (مترجم) | 03 |

| نمبر شمار | کُتب | صفحہ نمبر |
|---|---|---|
| 25 | مائۃ عامل منظوم (مع ترجمہ وشرح) | 04 |
| 26 | خلاصۃ النحو | 04 |
| 27 | نصاب النحو | 04 |
| 28 | تعریفاتِ نحویہ | 04 |
| 29 | مراح الأرواح مع حاشية ضياء الإصباح | 04 |
| 30 | صرف بَہائی مع حاشیہ صرف بنائی | 04 |
| 31 | نصاب الصرف | 04 |
| 32 | جامع ابواب الصرف | 04 |
| 33 | خاصیات ابواب الصرف | 05 |
| 34 | دروس البلاغة مع شرحه شموس البراعة | 05 |
| 35 | تلخيص المفتاح مع شرح تنوير المصباح | 05 |
| 36 | مختصر المعاني مع حاشية تنقيح المباني | 05 |
| 37 | المطوّل مع حاشية المؤوّل | 05 |
| 38 | قصيدة البردة مع شرح عصيدة الشهدة | 05 |
| 39 | ديوان المتنبّي مع حاشية إتقان المتلقي | 05 |
| 40 | ديوان الحماسة مع حاشية زبدة الفصاحة | 05 |
| 41 | دیوان الحماسہ مع شرح اتقان الفراسہ (اردو) | 06 |
| 42 | المحادثة العربية | 06 |
| 43 | إنشاء العربية (الجزء الأول) | 06 |
| 44 | فیض الادب | 06 |
| 45 | نصاب الادب | 06 |
| 46 | المرقاة مع حاشية المشكاة | 06 |
| 47 | نصاب المنطق | 06 |
| 48 | السراجية مع شرحه القمرية | 06 |
| 49 | فیضانِ تجوید | 07 |
| 50 | منتخب أبواب من إحياء علوم الدين | 07 |
| 51 | قصیدہ بردہ سے روحانی علاج | 07 |
| 52 | خلفائے راشدین | 07 |

Rs.460/=

نام: تفسير الجلالين مع أنوار الحرمين (الأول)

مصنف : امام جلال الدین سیوطی، امام جلال الدین محلی رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمَا

موضوع : تفسیر القرآن

صفحات : 364

سائز : 20 x 30

ISBN : 978-969-631-578-0

پروڈکٹ کوڈ : 0101105



Rs.460/=

نام: تفسير الجلالين مع أنوار الحرمين (الثاني)

مصنف : امام جلال الدین سیوطی، امام جلال الدین محلی رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمَا

موضوع : تفسیر القرآن

صفحات : 364

سائز : 20 x 30

ISBN : 978-969-631-046-4

پروڈکٹ کوڈ : 0101263



Coming Soon

نام: تفسير البيضاوي مع حاشية مقصود الناوي

مصنف : امام ناصر الدین عبد اللہ بن عمر بیضاوی شافعی رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ

موضوع : تفسیر القرآن

صفحات : 396

سائز : 20 x 30

ISBN : 978-969-631-148-5

پروڈکٹ کوڈ : 0126283

Rs.200/=

نام: تفسیر سورۂ نور

مصنف : مفتی ابو الصالح محمد قاسم القادری مَدَّظِلُّہُ الْعَالِی

موضوع : تفسیر القرآن

صفحات : 136

سائز : 20 x 30

ISBN : 978-969-631-206-2

پروڈکٹ کوڈ : 0101509

Rs.480/=

نام: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

مصنف : امام اہلسنّت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ

موضوع : حدیث

صفحات : 451

سائز : 20x 30

ISBN :

پروڈکٹ کوڈ : 0101466

Rs.250/=

نام: رياض الصالحين مع حاشية منهاج العارفين

مصنف : علامہ یحیی بن شرف نووی شافعی رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ

موضوع : حدیث

صفحات : 124

سائز : 20 x 30

ISBN : 978-969-631-569-8

پروڈکٹ کوڈ : 0126091

Rs.160/=

نام: شرح الأربعين النووية

مصنف : علامہ یحیی بن شرف نووی شافعی رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ

موضوع : حدیث

صفحات : 105

سائز : 23 x 36

ISBN : 978-969-631-296-3

پروڈکٹ کوڈ : 0101469



Rs.480/=

نام: انوار الحدیث

مصنف : فقیہ ملت حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین احمد امجدی رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ

موضوع : حدیث

صفحات : 466

سائز : 20 x 30

ISBN : 978-969-631-108-9

پروڈکٹ کوڈ : 0101187



نام: **نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر**

مصنف : امام حافظ ابن حجر عسقلانی رَحمَۃُ اللہِ تَعالٰی عَلَیْہ

موضوع : اصول حدیث

صفحات :175

سائز :20 x 30

ISBN :

پروڈکٹ کوڈ: 0101788

Rs.330/=

نام: **مقدمة الشيخ مع التحفة المرضية**

مصنف : شیخ عبد الحق محدّث دہلوی رَحمَۃُ اللہِ تَعالٰی عَلَیْہ

موضوع : اصول حدیث

صفحات :120

سائز :23 x 36

ISBN :978-969-631-196-6

پروڈکٹ کوڈ: 0101123

Rs.120/=



نام: **تيسير مصطلح الحديث**

مصنف : ڈاکٹر محمود طحان

موضوع : اصول حدیث

صفحات :124

سائز :20 x 30

ISBN :978-969-631-575-9

پروڈکٹ کوڈ: 0126093

Rs.320/=

نام: **نصابِ اصولِ حدیث**

پیشکش : مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوت اسلامی)

موضوع : اصول حدیث

صفحات :95

سائز :20 x 30

ISBN :978-969-579-908-6

پروڈکٹ کوڈ: 0101030

Rs.80/=

نام: **نور الإيضاح مع حاشية النور و الضياء**

مصنف : علامہ حسن بن عمار شرنبلالی حنفی رَحمَۃُ اللہِ تَعالٰی عَلَیْہ

موضوع : فقہ

صفحات :379

سائز :20 x 30

ISBN :978-969-579-997-0

پروڈکٹ کوڈ: 0101467

Rs.440/=

نام: **قانون شریعت**

مصنف : حضرت علامہ قاضی شمس الدین احمد جونپوری رَحمَۃُ اللہِ تَعالٰی عَلَیْہ

موضوع : فقہ

صفحات :276

سائز :23 x 36

ISBN :978-969-631-918-4

پروڈکٹ کوڈ: 0126266

Rs.230/=



نام: **أصول الشاشي مع أحسن الحواشي**

مصنف : امام نظام الدین شاشی رَحمَۃُ اللہِ تَعالٰی عَلَیْہ

موضوع : اصول فقہ

صفحات :299

سائز :20 x 30

ISBN :978-969-579-996-3

پروڈکٹ کوڈ: 0101039

Rs.320/=



نام: **تلخیص اصول الشاشی**

پیشکش : مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوت اسلامی)

موضوع : اصول فقہ

صفحات :144

سائز :23 x 36

ISBN :978-969-579-935-2

پروڈکٹ کوڈ: 0101042

Rs.170/=



# مکتبۃ المدینہ
# MAKTABA TUL MADINAH

DAWAT-E-ISLAMI

**Rs.500/=**

نام: **شرح العقائد النسفية مع حاشيته جمع الفرائد**

مصنف : علامہ مسعود بن عمر تفتازانی رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہ

موضوع : عقائد

صفحات :385

سائز :20 x 30

ISBN :978-969-631-786-9

پروڈکٹ کوڈ :0101091

**Rs.340/=**

نام: **شرح الفقه الأكبر**

مصنف : امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہ

موضوع : عقائد

صفحات :213

سائز :20 x 23

ISBN :978-969-631-400-4

پروڈکٹ کوڈ :0101958



**Rs.50/=**

نام: **کتاب العقائد**

مصنف : صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہ

موضوع : عقائد

صفحات :64

سائز :23 x 36

ISBN :978-969-579-865-2

پروڈکٹ کوڈ :0101177

**Rs.350/=**

نام: **هداية النحو مع حاشية عناية النحو**

پیشکش : مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوت اسلامی)

موضوع : علم نحو

صفحات :289

سائز :20 x 30

ISBN :978-969-579-998-7

پروڈکٹ کوڈ :0101040



**Rs.360/=**

نام: **الكافية مع شرحه الناجية**

مصنف : علامہ جمال الدین ابوعمرو عثمان مالکی رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہ

موضوع : علم نحو

صفحات :252

سائز :20 x 30

ISBN :978-969-579-790-7

پروڈکٹ کوڈ :0101010



**Rs.526/=**

نام: **شرح الجامي مع حاشية الفرح النامي**

مصنف : علامہ نور الدین عبد الرحمن بن احمد جامی رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہ

موضوع : علم نحو

صفحات :419

سائز :20x 30

ISBN :978-969-631-063-1

پروڈکٹ کوڈ :0101625



**Rs.230/=**

نام: **شرح مائة عامل مع حاشية الفرح الكامل**

مصنف : علامہ نور الدین عبد الرحمن بن احمد جامی رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہ

موضوع : علم نحو

صفحات :139

سائز :20 x 30

ISBN :978-969-631-084-6

پروڈکٹ کوڈ :0101035

**Rs.200/=**

نام: **نحو میر مع حاشیہ نحو منیر (مترجم)**

مصنف : علامہ سید شریف علی بن محمد جرجانی رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہ

موضوع : علم نحو

صفحات :205

سائز :23 x 36

ISBN :978-969-631-468-4

پروڈکٹ کوڈ :0101037

# مکتبۃ المدینہ
MAKTABA TUL MADINAH

Rs.50/=



نام: مائۃ عامل منظوم (مع ترجمہ وشرح)
مصنف : کمال الدین بن جمال الدین
موضوع : علم نحو
صفحات 22:
سائز 23 x 36:
ISBN 978-969-631-506-3:
پروڈکٹ کوڈ: 0125249

Rs.220/=

نام: خلاصۃ النحو
مصنف : ابن داود عبد الواحد حنفی عطاری مَدَّظِلُّہُ العَالِی
موضوع : علم نحو
صفحات 220:
سائز 23 x 36:
ISBN 978-969-631-787-6:
پروڈکٹ کوڈ: 0126232

Rs.230/=

نام: نصاب النحو
پیشکش : مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوت اسلامی)
موضوع : علم نحو
صفحات 280:
سائز 23 x 36:
ISBN 978-969-579-909-3:
پروڈکٹ کوڈ: 0101150

Rs.50/=



نام: تعریفاتِ نحویہ
پیشکش : مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوت اسلامی)
موضوع : علم نحو
صفحات 53:
سائز 23 x 36:
ISBN 978-969-631-112-6:
پروڈکٹ کوڈ: 0101038

Rs.250/=

نام: مراح الأرواح مع حاشیۃ ضیاء الإصباح
مصنف : حضرت علامہ شیخ احمد بن علی بن مسعود رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ
موضوع : علم صرف
صفحات 186:
سائز 20 x 30:
ISBN 978-969-579-643-6:
پروڈکٹ کوڈ: 0101058

Rs.40/=

نام: صرف بہائی مع حاشیہ صرف بنائی
مصنف : حضرت علامہ بہاؤ الدین عاملی رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ
موضوع : علم صرف
صفحات 68:
سائز 23 x 36:
ISBN 978-969-631-467-7:
پروڈکٹ کوڈ: 0101036

Rs.280/=

نام: نصاب الصرف
پیشکش : مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوت اسلامی)
موضوع : علم صرف
صفحات 352:
سائز 23 x 36:
ISBN 978-969-579-933-8:
پروڈکٹ کوڈ: 0101147

Rs.320/=

نام: جامع ابواب الصرف
پیشکش : مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوت اسلامی)
موضوع : علم صرف
صفحات 236:
سائز 20 x 30:
ISBN 978-969-631-819-4:
پروڈکٹ کوڈ: 0126238



Rs.110/=

نام: خاصیات ابواب الصرف

پیشکش : مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوت اسلامی)

موضوع : علم صرف

صفحات : 141

سائز : 23 x 36

ISBN : 978-969-579-995-6

پروڈکٹ کوڈ : 0101151

---



Rs.240/=

نام: دروس البلاغۃ مع شرحہ شموس البراعۃ

مصنف : حفنی ناصف وغیرہ

موضوع : علم بلاغت

صفحات : 242

سائز : 23 x 36

ISBN : 978-969-579-645-0

پروڈکٹ کوڈ : 0101041

---

Rs.320/=

نام: تلخيص المفتاح مع شرح تنوير المصباح

مصنف : حضرت علامہ محمد بن عبد الرحمن قزوینی شافعی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه

موضوع : علم بلاغت

صفحات : 230

سائز : 20 x 30

ISBN : 978-969-631-629-9

پروڈکٹ کوڈ : 0101238

---

Rs.600/=

نام: مختصر المعاني مع حاشية تنقيح المباني

مصنف : علامہ مسعود بن عمر تفتازانی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه

موضوع : علم بلاغت

صفحات : 472

سائز : 20 x 30

ISBN : 978-969-631-824-8

پروڈکٹ کوڈ : 0126240

---

Coming Soon



نام: المطوّل مع حاشية المؤوّل

مصنف : علامہ مسعود بن عمر تفتازانی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه

موضوع : علم بلاغت

صفحات : 400

سائز : 20 x 30

ISBN : 978-969-631-471-4

پروڈکٹ کوڈ : 0126286

---

Rs.420/=

نام: قصيدة البردة مع شرح عصيدة الشهدة

مصنف : حضرت علامہ احمد بن ابو بکر بوصیری شافعی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه

موضوع : علم ادب

صفحات : 320

سائز : 20 x 30

ISBN : 978-969-579-792-1

پروڈکٹ کوڈ : 0101507

---

Rs.150/=

نام: ديوان المتنبّي مع حاشية إتقان المتلقّي

مصنف : ابو الطیب احمد بن الحسین

موضوع : علم ادب

صفحات : 88

سائز : 20 x 30

ISBN : 978-969-631-630-5

پروڈکٹ کوڈ : 0126139

---

Rs.300/=

نام: ديوان الحماسة مع حاشية زبدة الفصاحة

مصنف : ابو تمام حبیب بن اوس طائی

موضوع : علم ادب

صفحات : 208

سائز : 20 x 30

ISBN : 978-969-631-222-2

پروڈکٹ کوڈ : 0126280

**Rs.420/=**



نام: دیوان الحماسہ مع شرح اتقان الفراسہ (اردو)
مصنف : ابوتمام حبیب بن اوس طائی
موضوع : علم ادب
صفحات 325:
سائز 20 x 30:
ISBN 978-969-631-222-2:
پروڈکٹ کوڈ: 0101083

**Rs.100/=**

نام: المحادثة العربية
مصنف : محمد ابو ابراہیم وغیرہ
موضوع : علم ادب
صفحات 101:
سائز 23 x 36:
ISBN 969-969-579-728-0:
پروڈکٹ کوڈ: 0101050

**Rs.80/=**

نام: إنشاء العربية (الجزء الأول)
مصنف : حضرت علامہ مفتی سید شجاعت علی قادری رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہ
موضوع : علم ادب
صفحات 84:
سائز 23 x 36:
ISBN 978-969-631-861-3:
پروڈکٹ کوڈ: 0125603

**Rs.210/=**

نام: فیض الادب
مصنف : علامہ بدر الدین احمد قادری رضوی رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہ
موضوع : علم ادب
صفحات 148:
سائز 20 x 23:
ISBN 978-969-579-904-8:
پروڈکٹ کوڈ: 0109445

**Rs.110/=**

نام: نصاب الادب
پیشکش : مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوت اسلامی)
موضوع : علم ادب
صفحات 184:
سائز 23 x 36:
ISBN :
پروڈکٹ کوڈ: 0101124

**Rs.160/=**

نام: المرقاة مع حاشية المشكاة
مصنف : علامہ مولانا فضل امام الخیر آبادی رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہ
موضوع : علم منطق
صفحات 108:
سائز 20 x 30:
ISBN 978-969-631-568-1:
پروڈکٹ کوڈ: 0126090

**Rs.180/=**

نام: نصاب المنطق
پیشکش : مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوت اسلامی)
موضوع : علم منطق
صفحات 160:
سائز 23 x 36:
ISBN 978-969-631-275-8:
پروڈکٹ کوڈ: 0101075

**Rs.150/=**



نام: السراجية مع شرحه القمرية
مصنف : علامہ سراج الدین محمد بن عبد الرشید حنفی رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہ
موضوع : علم میراث
صفحات 116:
سائز 20 x 30:
ISBN 978-969-631-940-5:
پروڈکٹ کوڈ: 0126281

# مکتبة المدینه
## MAKTABA TUL MADINAH

Rs.110/=

نام: **فیضانِ تجوید**

پیشکش : مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوت اسلامی)

موضوع : علم تجوید

صفحات :164

سائز :23 x 36

ISBN :978-969-631-415-8

پروڈکٹ کوڈ :0101962

Rs.230/=



نام: **منتخب الأبواب من إحياء علوم الدين**

مصنف : حجۃ الاسلام حضرت امام محمد بن محمد غزالی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه

موضوع : تصوف

صفحات :170

سائز :20 x 30

ISBN :978-969-579-791-4

پروڈکٹ کوڈ :0101076

Rs.20/=



نام: **قصیدہ بردہ سے روحانی علاج**

پیشکش : مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوت اسلامی)

موضوع : تصوف

صفحات :21

سائز :23 x 36

ISBN :978-969-631-067-9

پروڈکٹ کوڈ :0109755

Rs.280/=



نام: **خلفائے راشدین**

مصنف : فقیہ ملت حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین احمد امجدی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه

موضوع : سیرت

صفحات :339

سائز :23 x 36

ISBN :978-969-579-860-7

پروڈکٹ کوڈ :0101359

## عنقریب شائع ہونے والی درسی کتب کی فہرست

| نمبر شمار | کُتب |
|---|---|
| 01 | طريقة جديدة في تعليم العربية |
| 02 | شرح التهذيب مع حاشية فرح التقريب |
| 03 | الرشيدية مع حاشية الفريدية |
| 04 | الجلالين معَ حاشية أنوار الحرمين (المجلّد الثالث) |
| 05 | الفوز الكبير مع حاشية الكنز الوفير |
| 06 | هداية الحكمة مع حاشية دراية الحكمة |
| 07 | المقامات الحريرية مع الحاشية |
| 08 | القطبي مع الحاشية |
| 09 | التوضيح مع التلويح والتلميح |
| 10 | المجموعة السنية (مجموعہ احادیث، عربی) |

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Coming Soon
تفسير البيضاوى
مقصود الناوى
Coming Soon
المطوّل
المؤوّل
RS:240
ديوان الحماسة
زبدة الفصاحة

ISBN 978-969-631-473-8
0106069

فیضانِ مدینہ، محلّہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ (کراچی)
UAN: +92 21 111 25 26 92 Ext: 2650 / 1144
Web: www.maktabatulmadinah.com / www.dawateislami.net
Email: feedback@maktabatulmadinah.com / ilmia@dawateislami.net